

Niyyat (Intention) for Fasting:

(can also be made in one's own language)

اللهم اصوم غد لک فاغفرلی ما قدمت وما آخرت

Transliteration:

Allahumma Asumu-Ghadan Laka Fagfirti
Makaddamtu Warna- Akhartu

Meaning

O Allah for thy glory do I fast, forgive me
(I implore) for all my sins'

Prayer at breaking the Fast :

(Alternatively in own language)

اللهم لک صمت و بک امنت و علیک

تو کلت و علی رزقک افطرت فقبل منی

Transliteration :

Alluhmma Laka - Sumtu Wa-Bika- Amantu Wa-Alaika-
Tawakkaltu Wa - Ala Rizkika Aftartu Fatakabbal- Minni

Meaning:

O Allah for Thy glory have I fasted.
I have believed and entrusted myself to Thee,
& I break my fast with the provision from Thee,
thus accept from me my fast'

**TO KEEP FAST IS THIRD
AND VERY IMPORTANT
PILLAR OF ISLAM**

DISLIKES OF FAST :- (UNPLEASANT THINGS)

1. TO APPLY TOOTHPASTE OR POWDER.
2. TO GATHER AND SWALLOW SALIVA IN MOUTH.
3. TO TASTE SOMETHING
4. TO TOUCH WIFE WITH SEXUAL DESIRE
5. TO BACKBITE

FOLLOWING BREAK FAST BUT NEED QAZA ONLY:

(1) TO EAT , DRINK SOMETHING THINKING THERE IS STILL TIME FOR SEHRI, (2) TO BREAK ROZA THINKING SUN HAS SET WHEREAS IN FACT IT HAS NOT. (3) IF WATER GOES DOWN THE THROAT DURING MOUTH WASH. (4) IF TOOTHPASTE OR POWDER GOES DOWN THE THROAT. (5) BY VOMITING MOUTH FULL DELIBERATELY OR BY SWALLOWING THE CONTENTS OF EXPULSION INSTEAD OF VOMIT. (6) TO PUT MEDICINE IN EAR OR NOSE OR INHALE SMOKE.

FOLLOWING BREAK FAST AND NECESSITATE QAZA AND KAFFARA:

KEEP 60 ROZAH CONTINUOUSLY IF UNABLE FEED 60 POOR PEOPLES. TO EAT, DRINK OR HAVE SEXUAL INTERCOURSE DURING ROZAH DELIBERATELY.

FOLLOWING DO NOT AFFECT FAST:

- (1) TO EAT, DRINK BY MISTAKE OR USE MISWAK.
- (2) VOMITING ON ITS OWN. (3) TO HAVE INJECTION OR APPLY SURMA.(4) TO USE HAIR OIL OR ATTAR.

SIX SUNNATS DURING RAMADAN :

- (1) TO HAVE SEHRI
- (2) TO BREAK ROZAH IMMEDIATELY AFTER SUNSET.
- (3) TO PERFORM TARAWEEH.
- (4) TO INCREASE THE READING OF QURAN.
- (5) TO FEED THE POOR AND NEEDY
- (6) TO OBSERVE AN ETEKAF DURING LAST TEN DAYS OF RAMADAN.

PLEASE DON'T DO DURING MONTH OF RAMADAN :

- (1) DON'T SPEAK WITHOUT PURPOSE
- (2) DON'T TELL LIES (3) DON'T BACKBITE
- (4) DON'T ARGUE AND FIGHT (5) DON'T SWEAR
- (6) DON'T EAT DOUBTFUL FOOD
- (7) DON'T LOOK AT UNDESIRABLE THINGS.
- (8) DON'T LISTEN TO OBJECTIONAL SPEECH
- (9) DON'T GOSSIP (10) DON'T COMMIT ANY SIN.

Eid Salah Timings:

1st Salah - 8am

2nd Salah - 9am

3rd Salah - 10am (including Ladies)

FITRANA £4.00 (Per Head)

2024 - RAMADAN TIME TABLE - 1445H

RAMADAN	DAY	MAR/APR 2024	END OF SEHRI	IFTAR TIME
1	MON	11	04:50am	06:00pm
2	TUE	12	04:48am	06:02pm
3	WED	13	04:46am	06:04pm
4	THUR	14	04:44am	06:06pm
5	FRI	15	04:42am	06:07pm
6	SAT	16	04:39am	06:09pm
7	SUN	17	04:37am	06:11pm
8	MON	18	04:35am	06:12pm
9	TUE	19	04:33am	06:14pm
10	WED	20	04:31am	06:16pm
11	THUR	21	04:29am	06:17pm
12	FRI	22	04:26am	06:19pm
13	SAT	23	04:24am	06:21pm
14	SUN	24	04:21am	06:22pm
15	MON	25	04:19am	06:24pm
16	TUE	26	04:16am	06:26pm
17	WED	27	04:14am	06:28pm
18	THUR	28	04:11am	06:29pm
19	FRI	29	04:09am	06:31pm
20	SAT	30	04:06am	06:33pm
21	SUN	31	05:03am	07:34pm
22	MON	Apr 1	05:01am	07:36pm
23	TUE	02	04:58am	07:38pm
24	WED	03	04:56am	07:39pm
25	THUR	04	04:53am	07:41pm
26	FRI	05	04:51am	07:43pm
27	SAT	06	04:48am	07:44pm
28	SUN	07	04:46am	07:46pm
29	MON	08	04:43am	07:48pm
30	TUE	09	04:41am	07:49pm

روزہ کے لئے ضروری چیزیں: (1) رمضان کے روزے کی نیت کا ہر رات طوع فیر کے وقت یا اس سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ (2) طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور مضطرات (جن پیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے) سے رکھنے۔

لیلۃ القدر: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے یقیناً عزت والی رات (لیلۃ القدر) میں اتنا، تمہیں کیا پیغہ کیا یہ عزت والی رات کیا ہے۔ یہ عزت والی رات ہزارہمیں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں۔ اور حجج ہونے تک سلامتی ہے۔ (سورہ القدر)۔ لیلۃ القدر ۲۱ ویں، ۲۳ ویں، ۲۵ ویں، ۲۷ ویں اور ۲۹ ویں راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے پورے ایمان و خلوص سے لیلۃ القدر عبادت میں بسر کی۔ اس کے تمام سبقہ گناہ معاف کردیں گے۔ (بخاری)

نمازِ رات: راتوں کی نمازنے مولکہ ہے جو مسلمان نمازِ رات کے خلوص ایمان سے اور اجر آخرت کی نیت سے پڑھے گا۔ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

اعتكاف: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم) اعتکاف مسنوں ہے۔ ۲۰ رمضان کو غروب آفتاب سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک محض اللہ کی رضا کے لیے مجبد کے اندر عبادت میں مصروف رہنے کا اعتکاف کہتے ہیں۔

صدقہ فطر: ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جس کے پاس اس کے اور اس کے عیال کے لیے عید کے دن اور رات کے خرچ سے زائد ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کی زکوٰۃ میں پر فرض (واجب) کی تاکہ وہ ان بڑکار اور بے حیائی کی باتوں سے جو روزہ دار سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ کفارہ بننے اور غربیوں اور مسکینوں کے کھانا نے کا انتظام ہو جائے۔ (ابوداؤد)

مقدار: دو سیر گندم کے آٹے کی قیمت کے برابر قمی صدقہ کرے، بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔

عید الفطر: عید انعام کا دن ہے۔ اور درکھت نماز واجب ہے۔ اس دن غسل کرنا، خوشبوکا ہنا۔ اور اپنے کپڑے پہننا، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے۔

رمضان المبارک

قرآن اور رمضان: قرآن حکیم اسی مہینے میں اتراء، جو تمام انسانوں کے لئے نور ہدایت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو اتنے اور ایسے مسحورے دیے گئے جن کو دیکھ کر اس پر لوگ ایمان لا سکے ہوں اور مجھے جو (اہم ترین) بجزہ دیا گیا وہ تو ہی کلام النبی (یعنی قرآن) ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے۔ (بخاری)۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو قرآن سیکھ اور سکھا ہے وہ بہترین انسان ہے۔ (بخاری) روزہ اور اس کی اہمیت:

روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ ہر عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ جس شخص نے ایمانی کیفیت کے ساتھ اور اجر آخرت کی نیت سے روزے رکھنے کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ (تفقیع علیہ)۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس مہینے میں کوئی ایک نیک کام اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا وہ ایسا ہو گا جیسے رمضان کے سوا اور ممینوں میں فرض ادا کیا ہو۔ اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا۔ وہ ایسا ہو گا جیسے رمضان کے سوا دوسرا مہینہ میں کسی نے ستر فرض ادا کئے۔ (مشکوٰۃ)۔ انسان کے ہر عمل خیر کا اجر دیا گیا سات سو گناہ کے لیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن روزہ اس سے مشتمل ہے۔ کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا (جتنا چاہوں گا) بدله دوں گا (آخر) انسان اپنی شہوتو نفسی اور اپنا کھانا پینا میری ہی خاطر تو روک رہتا ہے۔ (مسلم)۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدله جنت ہے۔ (مشکوٰۃ)

اس ماہ کے آداب:

- (۱) سحری کھانا (۲) سورج ڈوبتے ہی اظہار کرنا۔ (۳) روزے کی حالت میں اور اظہار کے وقت دعاوں کا اہتمام کرنا۔ (۴) مسواک کرنا۔ (۵) غلط باقتوں سے دور رہنا۔ (۶) صدقات و خیرات کرنا۔

(۷) آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔ تین عشرے: پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔

روزے کے مسائل: روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھانے پینے سے، دن کے وقت احتلام ہو جانے سے، سرمہ لگانے سے، آنکھ میں دواڑا لئے سے یہکہ لگوانے سے، بالوں میں تیل ڈالنے سے، خوشبوکا نے یا سو گھنٹے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخوبی قہقہے ہو جائے۔ لیکن بوجھ کرنے اور روزہ رکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کرنے کرنے اور روزہ رکھنے سے زیادہ عبادت کرنے۔ کفارہ یہ ہے کہ ساٹھ دن لگاتار بلانا نہ روزہ رکھنے کا سامان دینا واجب ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ساٹھ دن قیمت فی کس کے حساب سے ساٹھ مسکینوں کو ادا کرے۔ مرتیض و مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہے۔ البتہ چاہے یہ کیمکت پورے ماہ کا یا ایک روزانہ ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر قمی کا کھانے کا سامان دینا واجب ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی رخصت ہے اور صرف روزے کی قضا واجب ہے۔ ایام ماہواری اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہے۔ صرف قضا واجب ہے۔

Please donate generously towards the House of Allah

Account Details:

Jamiat-ul-Musleemeen

Quwat-ul-Islam Masjid

Sort Code: 20-23-97

Bank Account : 90295299